



سوال

(248) بدعات کی سنگینی میں فرق ہوتا ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں اس حدیث کی تفصیلی شرح چاہتا ہوں :

((كُلُّ مُدْخَلَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ))

”ہر نئی لمباد شدہ چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔“

ہم اس عبارت کا وضاحت سے معنی مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج کل کی جو نئی لمبادات ہیں۔ مثلاً ۲ ہونی جہاز، لاؤڈ سپیکر اور دوسری لمبادات جو نئی ہیں یہ سب ”محدثہ“ اور بدعت میں شامل ہیں، لیکن ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی طباعت ”بدعت“ اور ”محدثہ“ ہو سکتی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

۱۔ علمائے کرام نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، دینی بدعت اور دنیوی بدعت کا مطلب ہے۔ ”کوئی ایسی عبادت لمباد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں مقرر نہیں کی“ سوال میں ذکر کردہ حدیث اور اس مضموم کی دیگر احادیث میں یہی بدعت مراد ہے۔

دنیوی بدعت میں جس کے فائدہ کا پہلو خرابی کے پہلو پر غالب ہو وہ جائز ہے ورنہ ممنوع نئی نئی لمبادات اور ہتھیار اور سواریاں اسی بدعت کی مثالیں ہیں۔

۲۔ ہونی جہاز لاؤڈ سپیکر اور سی قسم کے روزمرہ استعمال کی نو لمباد دنیوی اشیاء میں کوئی شرعی قباحت نہیں اس لیے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ ان کا استعمال کسی پر ظلم کرنے اور کسی بدعت یا گناہ کی تائید و اشاعت کے لیے نہ ہو۔ یہ چیزیں ان احادیث کے تحت نہیں آتیں جن میں بدعتوں سے منع کیا گیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی کتابت و طباعت، اس کی حفاظت کے اور تعلیم و تعلم کا ایک ذریعہ ہے۔۔۔ ذریعہ کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان کا مقصود ہوتا ہے، لہذا یہ سب جائز ہوں گے اور ممنوعہ بدعات میں شامل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ اس کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔

۴۔ آپ کتاب ”تنبیہ الغافلین“ از حناص الاعتصام“ از شاطبی“ السنن والابتدعات“ اور ”الابداع فی مضار الابتداع“ کا مطالعہ کریں۔



وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللجنة الدائمة، رکن: عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، نائب صدر: عبدالرزاق عظیمی، صدر: عبدالعزیز بن باز۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ

جلد دوم - صفحہ 288

محدث فتویٰ